



اس کے پاس جاؤ اور اسے بتادو کہ جنہوں میں سے نہیں، بلکہ جنتیوں میں سے ہیں

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو غیر موجود دیکھ کر ان کے بارے میں پوچھا، تو ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں آپ کے پاس ان کے بارے میں جان کاری لے آؤں گا چنانچہ وہ ثابت بن قیس کے یہاں گیا، تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں اس نے حال پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ حال برا ہے ان کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہے جو جایا کرتی تھی، اس لیے ان کا عمل ضائع ہو گیا اور اب وہ جہنمی ہیں چنانچہ وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا تھا، سب سنا دیا چنانچہ دوسری بار وہ ان کے پاس ایک بہت بڑی خوش خبری کے ساتھ گئے دراصل آپ نے کہا تھا: "اس کے پاس جاؤ اور اسے بتادو کہ جنہوں میں سے نہیں، بلکہ جنتیوں میں سے ہیں"

[صحیح] [متفق علیہ]

ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو غیر حاضر دیکھا اور ان کے بارے میں پوچھا، تو ایک شخص نے بتایا کہ میں جاکر پتہ لگاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ غائب کیوں ہیں؟ چنانچہ وہ شخص ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا، تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں اداس ہو کر سر جھکائے بیٹھے ہیں اس شخص نے جب حال پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ کرب بتایا، جس سے وہ گزر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہے جو جایا کرتی تھی اور اللہ نے ایسا کرنے والا کو یہ دھمکی دی ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں داخل ہوگا چنانچہ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ دیکھا اور سنا تھا، سب کچھ بتا دیا، تو آپ نے حکم دیا کہ وہ دوبارہ ثابت بن قیس کے پاس جائیں اور ان کو یہ خوش خبری دیں کہ وہ جہنمی نہیں، بلکہ جنتی ہیں ایسا اس لیے کہ ان کی آواز پیدائشی طور پر اونچی تھی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار کے خطیب تھے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/65073>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

